

جَاعِفٌ: زبردست سیلاب۔ ہر شے کو بہالے جانے والا سیلاب۔

جَاعِلٌ: دینے والا۔ بنانے والا۔ اِجْعَلُوا مِنْ صَلَوَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اپنی کچھ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي۔ غازی کو اس کا ثواب ملے گا اور جس نے اس کو جہاد کے لئے خرچ دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور غازی کا ثواب بھی ملے گا۔

جَائِلٌ: بھاگا ہوا۔ گھبرا یا ہوا۔ بزدل۔

جَائِيٌّ: بے رحم۔ سنگ دل۔ سخت مزاج۔

جَالِبٌ: لانے والا۔ کمائی کرنے والا۔ شور مچانے والا۔ باہر سے مال منگانے والا۔ اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ۔ باہر سے غلہ لانے والے کو اللہ روزی دے گا اور جو غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے وہ ملعون ہے۔

جَالِبَةٌ: آفت۔ مصیبت۔ جمع جَوَالِبُ۔

جَالِحَةٌ: روٹی کی مانند اڑنے والا پھونس۔ خشک سال۔ جمع جَوَالِحُ۔

جَالِسٌ: بیٹھنے والا۔ بلند جگہ کی طرف جانے والا۔

جَالِعٌ: بے ہودہ۔ بے ادب۔ بے شرم۔ دانت نکالنے والا۔

جَالِفَةٌ: خشک سال جس میں مال و متاع ختم ہو جائے۔ گہرا زخم۔ رَجُلٌ أَصَابَتْ مَالَهُ جَالِفَةٌ (اس شخص کو سوال کرنا درست ہے) جس کے مال پر آفت آئی ہو۔

جَالِيَّةٌ: مہاجرین۔

جَنَاءٌ: شخص۔ جزا۔ بدلہ۔ مقدار۔ تخمینہ۔ تقریباً۔

جَنَاءٌ: شخص۔ جزا۔ بدلہ۔ مقدار۔ تخمینہ۔ تقریباً۔

جَنُوءٌ: مٹی کا ڈھیر، پتھروں کا ڈھیر، قبر، جسم، لاش، جمع جَشِيٌّ و جَشِيٌّ۔ رَأَيْتُ قُبُورَ الشَّهَدَاءِ جُنُوءًا۔ میں نے مٹی کے ڈھیروں کی طرح شہیدوں کی قبریں دیکھیں۔

جَنُوءٌ: مٹی کا ڈھیر، پتھروں کا ڈھیر، قبر، جسم، لاش۔

جَحٌّ: بچانا۔ آواز کرنا۔ زچگی کا وقت قریب آنا، کھینچ کر نکالنا۔

جِحَاظٌ: آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کا ڈھیلا۔ آنکھ کا حلقہ۔

جُحَافٌ: ہیضہ۔ دستوں کی بیماری۔ موت۔ سَیْلٌ جُحَافٌ۔ تابہی مچانے والے سیلاب۔  
جِحَافٌ: لڑائی۔

جَحْجَاحٌ: نجی۔ سردار۔

جَحْجَحٌ: نجی۔ سردار، جاہل کرنا۔ رکتا۔ جمع مَجَاجِحَةٌ۔

جَحَدٌ: جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ناشکری کرنا، کفر کرنا، جھٹلانا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا  
أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اور ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی بنا پر ان کا انکار کیا حال آں کہ وہ  
اپنے دل میں ان کا یقین کر چکے تھے۔

جَحْدَرٌ: کوتاہ قامت۔ پست قد۔ جمع جَحَادِرٌ۔

جَحْدَلٌ: غربت کے بعد مال دار ہونا۔ مال جمع کرنا۔ برتن کو بھرنا۔ جوڑنا۔ پچھاڑنا۔ باندھنا۔

جَحْدَلَةٌ: غربت کے بعد مال دار ہونا۔ مال جمع کرنا۔ برتن کو بھرنا۔ جوڑنا۔ پچھاڑنا۔ باندھنا۔

جَحْرٌ: سوراخ میں گھس جانا۔ آنکھ کا بیٹھ جانا۔ دیر کرنا۔ پیچھے رہ جانا۔ بارش نہ ہونا۔ قحط کا شکار  
ہونا۔

جَحْرٌ: سوراخ۔ بل۔ جمع جَحْرَةٌ وَّ أَجْحَارٌ۔ فَلَدِيَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْجَحْرِ۔ ابو بکر رضی اللہ  
عنه کو (غار ثور میں) ایک سوراخ سے ڈنگ مارا گیا۔ لَا يَبُولُونَ أَحَدًا كُمْرِي الْجَحْرِ۔ تم  
میں سے کوئی (زمین کے) سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَحْرِ  
مَرْتِنٍ۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔

جَحْرَةٌ: قحط سالی۔ خشک سالی۔

جَحْشٌ: کھال چھیلنا۔ کنارہ کش ہو جانا۔ الگ ہو جانا۔ خراش پیدا کرنا۔ مارڈالنا۔ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ فَجَحَشَ شَقَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے  
گر پڑے اور آپ کا ایک طرف کا جسم پھیل گیا۔

جَحْشٌ: گدھے کا بچہ۔ جمع جِحَاشٌ

جَحْفٌ: جانب دار ہونا۔ مائل ہونا۔ مانوس ہونا۔ کھال چھیلنا۔ کھودنا۔ اکٹھا کرنا۔ لات مارنا۔

اچک لے جانا۔ بہا لے جانا۔ بلے سے گیند روکنا۔

جُحْفَةٌ: حوض کے اطراف میں بچا ہوا پانی۔ مٹھی بھر کھانا۔ کے اور مدینے کے درمیان ایک مقام کا

نام۔

جَحْفَلٌ: بڑا لشکر۔ بڑے مرتبے کا آدمی۔ جمع جَحَافِلٌ۔

جَحْفَلَةٌ: چھاڑنا۔ تیر مارنا۔

جَحْلٌ: ہر بڑی شے۔ گرگٹ۔ گوہ کا بچہ۔ شہید کی کہیوں کی ملکہ۔ بڑی مشک۔

جَحْمٌ: آگ بھڑکانا۔ سلگانا۔ کھولنا۔ باز رہنا۔

جَحْمَةٌ: بھڑکتی ہوئی آگ۔

جَحْمَةٌ: بھڑکتی ہوئی آگ۔

جَحْمَرٌ: بڑھیا۔ عمر رسیدہ۔

جَحْمَرٌ شٌ: بڑھیا۔ عمر رسیدہ۔

جُحُوذٌ: جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ناشکری کرنا۔ کفر کرنا۔ جھٹلانا۔

جُحُوْظٌ: آنکھ کا باہر نکل آنا۔ گھورتا۔ ٹھکی لگانا۔

جَحِيْمٌ: دوزخ۔ بھڑکتی ہوئی آگ۔ قَالُوا ابْنُوهُ بُنْيَانًا فَالْقَوَّةُ فِي الْجَحِيْمِ۔ وہ کہنے لگے کہ

ابراہیم کے لئے ایک عمارت بناؤ اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔

جَحِيْمٌ: بڑھیا۔ عمر رسیدہ۔ جَحْمَرٌ شٌ کی تصغیر ہے۔ تصغیر میں ش گر گیا۔ اِنِّي اِمْرَةٌ جَحِيْمٌ۔

میں بوڑھی عورت ہوں۔

جَحْجٌ: بیروں سے مٹی اڑانا۔ نماز میں بازوؤں کو کشادہ کرنا۔ برتن کو اوندھا کرنا۔ کبڑا ہونا۔

دھونی لینا۔

جَحَافٌ: مغرور۔

جَحْجَحَةٌ: پکارنا۔ چلانا۔ گرانہ۔

جَحْوٌ: کنوے کا منہ بڑا کرنا۔ بدبودار ہونا۔ خالی ہونا۔

جَحْوَاءٌ: چھپڑوں والی۔ عَيْنٌ جَحْوَاءٌ۔ چھپڑوں والی آنکھ۔

جَحْفٌ: فخر کرنا۔ اترانا۔ سو جانا۔ خراٹے لے لینا۔ ڈرانا۔

جَحْوٌ: اوندھا کرنا۔

جَدٌ: کانٹا۔ کوشش کرنا۔ بڑا ہونا۔ نصیب۔ سعادت۔ عظمت۔ بلند مرتبہ ہونا۔ مال دار ہونا۔

دادا۔ نانا جمع اجداد۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ تیرے سامنے تو گمر کی تو گمری کچھ کام نہ آئے گی۔

جُدُّ: ٹھیک۔ درست۔ صدق دل سے کہنا۔ یقینی ہونا۔ نہر کا کنارہ۔

جُدُّ: کنارہ۔ مٹاپا۔ کنواں جو سبز اور تازہ مقام میں ہو۔ سمندر کا کنارہ۔

جُدُّ: نہر کا کنارہ۔ سمندر کا کنارہ۔

جَدَاءٌ: وہ اونٹ یا بکری جس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ وہ عورت جس کے پستان چھوٹے ہوں۔ جَدَاذٌ: کھجور کے پھل توڑنے کا موسم۔

جَدَاذَةٌ: کھجور کا توڑا ہوا پھل۔

جَدَارٌ: دیوار جمع جُدُرٌ۔ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ۔ یاد یواروں کی آڑ میں۔

جَدَارَةٌ: لیاقت۔ اہلیت۔ صلاحیت۔

جَدَاغٌ: سخت سال۔ خشک سالی۔

جَدَالٌ: جھگڑا۔ تنازع۔ بحث کرنا۔

جَدَالٌ: کچی کھجور جب ہری اور گول ہو جائے۔

جَدَالَةٌ: باریک ریت والی زمین۔

جَدَامٌ: کھجور کی شاخ کی جڑ۔

جَدَامَةٌ: گیہوں وغیرہ کی بالیں جو پوری نہ ٹوٹیں اور آدھی باقی رہ جائیں۔

جَدَبٌ: قحط سالی۔ خشک سالی۔ قحط زدہ ہونا۔ عیب لگانا۔ برائی کرنا۔ بخیل پانا۔ مہمان نوازانہ پانا۔

أَرْضٌ جَدَبٌ: قحط زدہ زمین۔

جُدَّةٌ: نہر کا کنارہ۔ سمندر کا کنارہ۔ ایک مشہور شہر کا نام جو کئے کے قریب ساحل سمندر پر ہے۔

نشانی۔ علامت۔ راستہ۔ گھاٹی۔ جمع جُدَدٌ۔ وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيْبٌ سُودٌ۔ اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ

کہ ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں اور بعض بہت گہرے سیاہ ہیں۔

جُدَّةٌ: روئے زمین۔ کتے کے گلے میں پڑا ہوا پٹا۔ نیا پن۔ جمع جُدَدٌ۔

جَدَّةٌ: دادی۔ نانی۔ جمع جَدَّات۔

جَدَّتْ: قبر۔ جمع أَجْدَاتٌ۔ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَأَذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْبَسِلُونَ۔ اور جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

جَدَّ جَدُّ: ہم وار سخت زمین۔

جَدَّ جَدُّ: سخت اور ہم وار زمین۔

جَدَّ جَدُّ: بڑی جیسا ایک جانور جو رات کو بولتا ہے۔ جھینگر۔ کنواں جس میں بہت پانی ہو۔ جمع جدا جدد۔

جَدَّحٌ: پانی میں ستو گھولنا۔ گھولنا۔ حرکت دینا۔

جَدَّدٌ: نیا کرنا۔ تازہ کرنا۔ از سر نو کرنا۔ دوبارہ کرنا۔

جَدَّدُ: ہموار زمین۔ مَنْ سَلَكَ الْجَدَّةَ أَمِنَ الْعِثَارَ۔ جو ہم وار رستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا۔

جَدَّرٌ: چپک میں مبتلا ہونا۔ کمر پر پھنسی لگانا۔ زخم ہو جانا۔ پھل نکلنا۔ پتے نکلنا۔ کوئل نکلنا۔ دیوار کی آڑ میں چھپ جانا۔

جَدَّرٌ: لائق۔ سزاوار۔

جَدَّرٌ: دیوار۔ گھیرا۔ دیوار کی جڑ۔ جمع جَدَرَان

جَدْرَةٌ: کھجور کے پھول میں پڑنے والا بیج۔ بکریوں کا پاڑہ۔ جمع جَدَرٌ۔

جَدَسٌ: قبیلہ نخم کی ایک شاخ۔

جَدَسٌ: نشان مٹنا۔ سخت ہو جانا۔ خشک ہو جانا۔ زمین کا بخر ہونا۔

جَدَّعٌ: قید کرنا۔ ناک، کان، ہاتھ یا ہونٹ کا ٹٹا۔ بدن کا کوئی حصہ کاٹنا۔ نَهَى أَنْ يُضْحَى بِجَدَّعَاءَ۔ ناک کٹی یا کان کٹی بکری کی قربانی سے منع فرمایا۔

جَدَّعٌ: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ جسم کے کٹے ہوئے حصے والا ہونا۔

جَدَّفٌ: کاٹنا۔ چلنے ہوئے ہاتھ ہلانا۔

جَدَّفٌ: وہ شراب جو ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ شراب کے جھاگ یا تنکے وغیرہ جو چھینکے جائیں۔

جَدَفَاءٌ: غیبت۔

جَدَلٌ: آدمی یا ہرن کے بچے کا طاقت ور ہونا۔ مضبوط ہونا۔ خوشے میں دانا پڑنا۔ رسی کو بٹنا۔ گرانے۔

جَدَلٌ: بہت جھگڑا لو ہونا۔ لَقَدْ اَعْطَيْتُ بَدَلًا۔ اس نے مجھے بات بنانے کی قوت عطا فرمائی۔

جَدَلٌ: پچھاڑنا۔ بالوں کو گوندھانا۔ چوٹی بنانا۔

جَدَلٌ: کچی کھجور بیچنے والا۔ کیوتر کو پنجرے میں بند کرنے والا۔ بہت جھگڑا لو۔

جَدَلَاءٌ: مضبوط بنی ہوئی زرہ۔ جمع جَدَلٌ۔

جَدَمٌ: کاشا۔ کھجور کے درخت کا پھل دار ہو کر خشک ہو جانا۔

جَدَمَةٌ: پست قامت مرد یا عورت۔ دانے کا بالائی چھلکا۔ جمع جَدَمٌ۔

جَدَنٌ: غربت کے بعد مال دار ہونا۔

جَدَنٌ: خوش آوازی۔

جَدْوٌ: حاجت چاہنا۔ مانگنا۔

جَدْوَى: عطا۔ فائدہ۔ بخشش۔ ہمہ گیر بارش۔ تحفہ۔ شَغَلْتَنِي شِعَابِي جَدْوَايَ۔ مجھے اپنوں نے

دوسروں پر بخشش کرنے سے روک دیا۔

جَدْوَسٌ: نشان مٹنا۔ سخت ہو جانا۔ خشک ہو جانا۔ زمین کا بخر ہونا۔

جَدْوَلٌ: چھوٹی نہر۔ لکیر۔ گول۔ نقشہ۔ نجوم کا حساب۔ خانے دار چارٹ۔ قَالَ الْبَرَاءُ

جَدْوَلًا۔ برانے کہا کہ چھوٹی نہر۔

جَدْيٌ: مانگنا۔ ایک سال سے کم کا بکرا۔ فَجَاءَ بِجَدْيٍ وَجَدْيَةٍ۔ وہ بکری اور ہرن لایا۔

جُدَى: قطب کے نزدیک ایک ستارہ جس سے قبلہ معلوم کیا جاتا ہے۔

جَدِيَّةٌ: بہتا ہوا خون۔ خون کا فوارہ۔ چہرے کا رنگ۔ گوشا۔ جمع جَدَايَا۔ رَمِيْتُ يَوْمَ بَدْرِ سَهَيْلَ

بْنِ عَمْرٍو فَقَطَعْتُ نَسَاءً فَانْتَعَبْتُ جَدِيَّةَ الدَّمِ۔ میں نے بدر کی لڑائی میں سہیل بن عمرو

کے نیزہ مار کر ان کے کولھے کا پٹھا کاٹ دیا تو اس سے خوف کا فوارہ چھوٹ گیا۔

جَدِيدٌ: نیا۔ موجودہ زمانے کا۔ حال کا بنا ہوا۔ تازہ۔ غیر متوقع دولت۔ جمع جُدُدٌ وَجُدَدٌ۔ كُلُّ

جَدِيدٍ لَدِينِذٍ اِلَّا الْمَوْتُ۔ موت کے سوا ہر نئی چیز لذیذ ہے۔

جَدِيْرٌ: احاطہ کی ہوئی جگہ۔ چار دیواری والا باغ۔

جَدِیْلٌ: چمڑے کی مٹی ہوئی لگام۔ اَدْنٌ کی مٹی ہوئی لگام۔ مٹی ہوئی رسی۔ چٹنی۔ جَمْعُ جَدَلٍ۔  
جَدِیْنَةٌ: بانس کی کچھپیوں کا بنا ہوا پنجرہ۔ قبیلہ۔ گوشا۔ حالت۔ طریقہ۔ راستہ۔ رائے کی چٹنگی۔  
بالوں کی چٹیا۔ جَمْعُ جَدَائِلٍ۔

جَدُّ: جلدی کرنا۔ توڑنا۔ کاٹنا۔ جَدُّوْهُمْ جَدًّا۔ ان کافروں کو پوری طرح کاٹ ڈالو۔ عَطَاءٌ  
غَيْرَ مَجْدُوْدٍ۔ بے انتہا عنایت ہے۔

جَدَاءٌ: ٹوٹا ہوا دانت۔ کٹا ہوا۔ يَدٌ جَدَاءٌ۔ کٹا ہوا ہاتھ۔  
جَدَابٌ: بہت پرکشش۔

جَدَاذٌ: چورا۔ ریزہ۔ توڑا ہوا۔ کھڑے کیا ہوا۔ فَجَعَلَهُمْ جَدَاذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَهُمْ۔ پھر ابراہیم  
نے بڑے بت کے سوا سب کو کھڑے کھڑے کر دیا۔

جَدَاذَةٌ: تراشہ۔ ریزے۔ سونے کا کھڑا۔ چاندی کا چھوٹا کھڑا۔ جَمْعُ جَدَاذٍ۔

جَدَامٌ: ایک مشہور بیماری جس میں اعضا گل سڑ جاتے ہیں۔ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَمَنْ نَسِيَهُ لَقِيَ  
اللَّهَ وَهُوَ اَجْدَمٌ۔ جس نے قرآن سیکھا (یا دیکھا) پھر اس کو بھول گیا (پڑھنا چھوڑ دیا) تو وہ  
جذامی ہو کر اللہ سے ملے گا۔

جَدَامَةٌ: کٹی ہوئی کھیتی کا باقی ماندہ حصہ۔

جَدَانٌ: ایک قسم کا نرم پتھر۔

جَدْبٌ: کھینچنا۔ گزرتا۔ چوس لینا۔ دودھ چھڑانا۔ پھیلانا۔

جَدْبٌ: کھجور کے گامبے۔ وَاَحَدٌ جَدْبَةٌ۔ كَانَ يُحِبُّ الْجَدْبَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور  
کے گامبے پسند کرتے تھے۔

جَدْبَةٌ: کھڑا۔ لمبی مسافت۔ چرنے کے ایک چکر میں کٹا ہوا دھاگا۔

جَدَّةٌ: تن پوش کھڑا۔

جَدْرٌ: کاٹنا۔ جڑ سے اکھاڑنا۔ ہر شے کی جڑ۔ اَصْلٌ۔ گائے کا سینک۔ اِحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ

الْجَدْرَ۔ (زبیر) تم پانی کو روکے رہو یہاں تک کہ پانی درختوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔

جَدْعٌ: ملنا۔ رگڑنا۔ جانور کو چارے کے بغیر روکے رکھنا۔ روکنا۔ قید کرنا۔ دوا دینوں کو ایک رسی

میں باندھنا۔

جَذْعٌ: کھجور کا تنہ۔ درخت کا تنہ۔ وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ۔ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِينًا اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف جھکاؤ تیرے اوپر کچکی ہوئی تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔  
جَذْعٌ: گھوڑے یا گائے کا وہ بچہ جس کی عمر کا تیسرا سال شروع ہو گیا ہو۔ اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر کا پانچواں سال شروع ہو چکا ہو۔

جَذْعٌ: لوگوں کا تتر بتر ہونا۔ منتشر ہونا۔ ذَهَبَ الْقَوْمُ جَذْعَ مَدْعٍ۔ قوم تتر بتر ہو گئی۔  
جَذْعَمَةٌ: چھوٹا۔ کسن۔ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا جَذْعَمَةً (حضرت علی نے کہا) ابو بکرؓ اس وقت مسلمان ہوئے جب میں کم سن تھا۔

جَذْفٌ: جلدی کرنا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔ کاشا۔  
جَذَلٌ: خوش ہونا۔

جَذَلٌ: درخت کی جڑ۔ وہ لکڑی جو اونٹ کے کھجانے کے لئے ان کے تھان میں کھڑی کی جاتی ہے۔ يُبْصِرُ أَحَدَ كُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَلَا يُبْصِرُ الْجَذَلَ فِي عَيْنِهِ۔ تم میں سے بعض اپنے بھائی کی آنکھ کا نکاد دیکھتا ہے۔ اور اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتا۔  
جَذَلٌ: درخت کا تنہ۔ درخت کی جڑ۔

جَذْمٌ: کاشا۔ ہاتھ کٹ جانا۔

جَذْمٌ: جڑ۔ بنیاد۔ تنہ۔

جَذْمَةٌ: ہاتھ کاٹنے کی جگہ۔

جَذْمَةٌ: کٹے ہوئے درخت کا باقی ماندہ تنہ۔ رَأَيْتُ عِنْدَهُ جِذْمَةً مِنَ النَّاسِ۔ میں نے اس کے پاس لوگوں کی ایک جماعت دیکھی۔

جِذْمَةٌ: ٹنڈاپن۔ کوڑھ۔ جذام کی بیماری۔

جَذْوٌ: سیدھا کھڑا ہونا۔ پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔

جَذْوٌ: سیدھا کھڑا ہونا۔ پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔

جَذْوَةٌ: انگارا۔ لکڑی کا ٹکڑا جس میں ایک طرف آگ ہو۔ جمع جِذَاءٌ و جِذَاءٌ۔ لَعَلِّي أُنِجُو مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارا لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔



جُدُوْلٌ: قائم رہنا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا ہونا۔

جَدِيْدٌ: کئی ہوئی شے کا کلڑا۔ ٹوٹی ہوئی چیز کا کلڑا۔

جَدِيْدَةٌ: سَتُو۔ اِنَّهٗ كَانَ يَأْكُلُ جَدِيْدَةً قَبْلَ اَنْ تَغْدُوَ فِى حَاجِبِهٖ۔ وہ کام کے لئے نکلنے سے پہلے صبح کو سَتُو کا گھونٹ پی لیتے۔ رَاَيْتُ عَلِيًّا يَشْرَبُ بَدِيْدًا حِيْنَ اَفْطَرَ۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علیؑ افطار کے وقت سَتُو پی رہے تھے۔

جَدِيْلٌ: جَدَلٌ کی تصغیر: اَنَا جَدِيْلُهَا الْمَحْكُ وَعَدَّ يِقْهًا الْمَرْجُبُ۔ (خلافت کے بارے میں مشورے کے وقت حباب بن منذر نے کہا) میں اس معاملے کی وہ لکڑی ہوں جس سے کھجلی دور کی جاتی ہے، اور کھجور کا وہ درخت ہوں جس کو پھل کے بوجھ کی وجہ سے سہارا دیتے ہیں کہ وہ گرے نہیں۔ یعنی میں بڑا صائب الرائے ہوں، میری رائے لے کر لوگ اپنی مشکل دور کرتے ہیں۔

جَدِيْمَةٌ: ایک قبیلے کا نام۔

جَوَاءُ: حاملہ عورت کے حمل کا وقت سے زیادہ ہونا۔ کھینچنا۔ گھینٹنا۔

جَوَازٌ: بڑا عظیم الشان۔ کہہا۔ بہت کھینچنے والا۔

جَوَاءَةٌ: بہادری۔ دلیری۔ مردانگی۔ جسارت۔ وَقَوْمُهُ جَوَاءٌ عَلَيِّهِ۔ اس کی قوم والے اس پر شیر ہو گئے تھے۔

جَوَابٌ: توشہ دان۔ چمڑے کا تھیلا، غلاف۔ قبیلہ۔ جمع جَوَابٌ۔

جَوَاءَةٌ: بہادری۔ دلیری۔ مردانگی۔ جسارت۔

جَوَاجٌ: گیرج۔ موٹر کھڑی کرنے کی جگہ۔

جَوَاحٌ: زخم کی دوا کرنے والا۔ زخم کا علاج کرنے والا۔

جَوَاحَةٌ: زخم۔ گوشت کا چیرنا۔

جَوَادٌ: نڈی۔ اَلْجَوَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ۔ نڈی دریا کے شکار میں داخل ہے۔ یعنی جیسے دریا کا

شکار ذبح کئے بغیر درست ہے ایسے ہی نڈی بھی ذبح کئے بغیر حلال ہے۔ سُوِيْلٌ عَنِ

الْجَوَادِ لِقَالَ لَا اَكْمَلُهُ وَلَا اَحْرَمُهُ۔ نڈی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو

آپ نے فرمایا کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔

جُرَازٌ: عمدہ کاٹنے والی تلوار۔

جُرَازٌ: ایک بوٹی۔

جُرَاشَةُ: وہ خشکی جو سر کو کھجانے یا کنگھا کرنے سے جھڑتی ہے۔ دلایا۔ دلے ہوئے گیسوں وغیرہ۔

جُرَاضٌ: بڑا اونٹ۔ اپنے بچے پر مہربان اونٹنی۔

جُرَاصُفْرٌ: بہت کھانے والا۔ موٹا تازہ۔

جُرَافٌ: صفایا کر دینے والی چیز۔ مَوْتٌ جُرَافٌ۔ بمیابک موت۔ رَجُلٌ جُرَافٌ۔ بہت کھانے والا۔

جُرَافٌ: بہت تیزی سے بہا لے جانے والا۔

جُرَافَةٌ: کدال۔ بھلیجا۔ پھاوڑا۔

جِرَامٌ: گرام۔ (ایک وزن) ایک کلو کا ہزارواں حصہ۔

جِرَامٌ: کھٹلی۔ خشک کھجوریں۔

جِرَامٌ: گرام۔ کلو کا ہزارواں حصہ۔

جِرَامًا: پھل توڑنا۔ کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑنا۔

جِرَامَةٌ: گرمی ہوئی کھجوریں (توڑتے وقت)

جِرَامِيَةٌ: انسان کے جسم کے اعضا۔ جمع جِرَامِيَةٌ۔

جِرَانٌ: اونٹ کی گردن کا اندرونی حصہ۔ أَلْفَى البُعْبُورُ جِرَانَةٌ۔ اونٹ بیٹھ گیا۔

جِرَابٌ: چمڑے کا وہ غلاف جس میں تلوار نیام سمیت رکھی جاتی ہے۔

جِرَابَاءٌ: قحط زدہ زمین۔ آسمان۔

جِرَبَانٌ: گریبان۔

جُرَبَانٌ: گریبان، تلوار کی میان۔ دھار۔

جُرَوَةٌ: بہادری۔ دلیری۔ مردانگی۔ جسارت۔

جُرَوَةٌ: مٹی کا گھڑا۔

جُرَوَةٌ: خانہ بدوش۔ جگالی۔ جمع جُرَوٌّ۔ هُوَ لَا يَكْظُمُ عَلَيَّ جُرَوْبَةً۔ وہ اپنے راز کو نہیں چھپاتا۔

جُرُومَةٌ: جڑ۔ وہ مٹی جو درخت کی جڑوں پر جمع ہو جاتی ہے۔ أَلَا سَدُّ جُرُومَةَ الْعَرَبِ لَمَعْنٌ

أَصْلٌ نَسَبُهُ فَلْيَأْتِيَهُمْ - اسد کا قبیلہ عربوں کی جڑ ہے سو جس کو اپنا خاندان معلوم نہ ہو وہ  
آ کر اس میں شامل ہو جائے۔ لَمَّا أَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِنَاءَ الْكُعْبَةِ كَانَتْ فِي  
الْمَسْجِدِ جَرَانِيْمٌ: جب عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو (گرا کر) نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا  
تو اس وقت مسجد میں جگہ جگہ قبیلے تھے۔

جَرُوحٌ: پریشانی۔ اضطراب۔ بے قراری۔ بے چین۔ ڈھیلا ہونا۔ سخت پتھر ملی زمین۔  
جَرُوحًا: گرج۔ بادل کی آواز۔

جَرُوحَةٌ: اونٹ کا بلبلانا۔ غٹ غٹ پینے کی آواز جو حلق سے نکلتی ہے۔ جَرُوحٌ فَوْضَعٌ جِرَانَةٌ  
(اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالکوں کی شکایت کرتے ہوئے)۔ بڑبڑ کر کے  
اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ قَوْمٌ يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ جَرًا جِرَاهُمْ۔ کچھ لوگ  
ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا (ان کے  
دل پر کچھ اثر نہ ہوگا)۔

جَرُوحَةٌ: پینا۔ گرانا۔ کھانا۔ نُرُ جَرَجَمَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ۔ پھر ایک کو دوسرے پر گرا دیا۔  
جِرَجِيْرٌ: ساگ۔ ایک مشہور سالن۔ حَتَّى يَنْبُثَ فِي قَعْرِهَا الْجِرَجِيْرُ۔ یہاں تک کہ اس کی  
تہ میں جرجیر (ساگ) آگے گا۔ یعنی دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔

جَرُوحٌ: زخمی کرنا۔ کمانا۔ گالی دینا۔ عیب بیان کرنا۔

جَرُوحٌ: زخم۔ گوشت کا چیرنا۔ مَنْ بِهِ فَرْمَةٌ أَوْ جَرُوحٌ۔ جس کو پھوڑا یا زخم ہو۔

جَرْدٌ: چملاکا اتارنا۔ بال نکالنا۔ نَكَرْنَا - أَهْلَ الْجَنَّةِ جَرْدٌ مُرْدٌ - اہل جنت بغیر بال اور بغیر  
ڈاڑھی موچھ ہوں گے۔ تَجَرَّدُوا بِالْحَجِّ وَإِنْ لَمْ تُخْرَمُوا - حاجیوں کی مشابہت کرو  
اگر چہ حج کا احرام نہ باندھا ہو۔ السَّوْبِقُ يَجْرُدُ الْمَرْءَ وَالْبَلْغَمُ جَرْدًا - ستوپت اور  
بلغم کو بالکل نکال دیتا ہے۔

جَرْدًا: جسم کا بالوں سے خالی ہونا۔ زمین کا نباتات سے خالی ہونا۔ پرانا ہونا۔ برہنہ کرنا۔ کسی کے  
کپڑے اتارنا۔ گنجا۔ سرمندا۔

جَرْدَاءٌ: چھیل۔ چکنی۔

جَرْدَةٌ: پرانی چادر۔ پرانا کپڑا۔

جَرْدَقُ: موٹی روٹی۔ ڈبل روٹی۔

جَرْدَلُ: بالٹی۔ ڈول۔ جمع جَرَادِلٌ۔

جَرْدَلَةٌ: گرنے کے قریب ہونا۔

جَرْدَا: زخم کا گٹھی بن جانا۔

جَرْدَا: زخم کا گٹھی بن جانا۔ گھوڑے کی ایزی کے اوپر درم ہونا۔

جَرْدُ: بڑا چوہا۔ جنگلی چوہا۔ جمع جَرْدَانٌ۔

جَرْدَةٌ: بہت چوہوں والی زمین۔

جَرْدٌ: جلدی جلدی کھانا۔ مارڈالنا۔ کاٹ دینا۔

جَرْدٌ: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔

جَرْدٌ: عورتوں کا لباس جو اونٹ کے بالوں اور بکریوں کی کھالوں سے بنایا جاتا ہے۔ سَأَلْتُهُ عَنِ

الْلِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ وَ الْعِجْرِزِ۔ میں نے ان سے پوچھا لومڑیوں کی کھالوں کے

کپڑے اور جرز میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَا نَسُوْقُ الْمَاءِ إِلَى

الْأَرْضِ الْعِجْرِزِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے

جاتے ہیں۔

جَرْدٌ: بنجر زمین۔ قحط زدہ زمین۔

جَرْدَةٌ: بندل۔ گٹھا۔ جمع جَرْدٌ۔

جَرَسٌ: بات کرنا۔ چاشا۔ ہلکی آواز نکالنا۔ مَا سَمِعْتُ لَهُ جَرَسًا۔ میں نے اس کی آواز نہیں

سنی۔ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَ جَرَسِ طَيْرِ الْجَنَّةِ۔ وہ جنت کے پرندوں کی آواز سنیں

گے۔ صُلْصَلَةُ الْجَرَسِ۔ گھنٹے کی آواز۔

جَرَسٌ: آواز۔ ہلکی آواز۔

جَرَسٌ: سخت چیز کھانے کی آواز۔ چھیلنا۔ ملنا۔ رگڑنا۔ کھجانا۔ آتَاهُ بِجَرَسٍ مِنَ الْبَيْلِ۔ وہ اخیر

رات میں اس کے پاس آیا۔

جَرَسٌ: شام میں ایک شہر۔

جَرَسٌ: گلا گھونٹنا۔ جان کا حلق تک آ جانا۔ اچھو ہونا۔

جَرُوعٌ: نلگنا۔ پانی کا گھونٹ بھر لے نا۔ ایک دم پی لے نا۔ غصے کو پینا۔

جَرُوعٌ: نلگنا۔ پانی کا گھونٹ بھر لے نا۔ ایک دم پی لے نا۔ غصے کو پینا۔

جُرُوعَةٌ: پانی کا ایک گھونٹ۔ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ هَذِهِ الْجُرُوعَةِ۔ اس کو اس گھونٹ کی کوئی حاجت نہیں۔ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا جُرُوعَةٌ دُنْيَا مِثْلٍ مِنْ صِرْفِ الْبَقِيَّةِ (باقی سا روقت گزر گیا)۔

جُرُوفٌ: بسیار خور ہونا۔ حریص ہونا۔ سب لے لینا۔ صاف کرنا۔ جُرُوفُ السَّيْلِ الْوَادِي۔ سیلاب نے وادی کے کناروں کو ختم کر دیا۔

جُرُوفٌ: دریا کا کھوکھلا کنارہ۔

جُرُوفٌ: مدینے کے قریب ایک مقام کا نام۔ دریا کا کھلا کنارہ۔ اَفَمَنْ اَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ اَمَنْ اَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُوفٍ هَارٍ۔ بھلا جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھے وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے ہی والی ہے۔

جُرُوفَةٌ: روٹی کا ٹکڑا۔ جمع جُرُوفٌ۔

جُرُومٌ: کاٹنا۔ برا بھینٹہ کرنا۔

جُرُومٌ: جرم۔ رنگ۔ آواز۔ خلق۔ كَانَ حَسَنَ الْجُرُومِ۔ وہ خوب صورت یا خوب صورت آواز والا تھا۔

جُرُومٌ: گناہ۔ قصور۔ جرم۔ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اِغْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى كَسٰى قَوْمٍ كٰى دَشٰى تَمٰهِيْنٌ عَدِلٌ سِوٰى رُوْمٍ كٰى عَدِلٌ كٰى رُوْمٍ۔ یہی تقوے کے قریب تر ہے۔

جُرُومٌ: بالکل کاٹ دینا۔

جُرُومَةٌ: توڑی ہوئی گدڑ کھجور۔

جُرُومَةٌ: سمٹ جانا۔ اکٹھا ہونا۔ لوٹنا۔ بھاگنا۔

جُرُومُوزٌ: بانچہ یا صاف میدان میں بنا ہوا حوض جہاں سے پانی بہتا ہو۔ چھوٹا گھر۔ گڑھا۔

جُرُونٌ: پینا۔

جُرُونٌ: کھلیان۔ غلہ اکٹھا کرنے کی جگہ۔ پانی کا حوض۔ ہاون دستہ۔ کھل۔ جمع اُجْرَانٌ۔ اِنَّهٗ سَمَانَ لَهٗ جُرُونٌ مِّنْ تَمْرٍ۔ اس کے لئے کھجور کے کئی کھلیان تھے۔

جُرُوٌّ: چھوٹا پھل۔ چھوٹی چیز۔ خم دار پھل جیسے ککڑی وغیرہ۔ ہر درندے کا چھوٹا بچہ۔ جمع جِرَآءٌ۔

جُرُوٌّ: چھوٹا پھل۔ چھوٹی چیز۔ خم دار پھل جیسے ککڑی وغیرہ۔ ہر درندے کا چھوٹا بچہ۔

جُرُوٌّ: چھوٹا پھل۔ چھوٹی چیز۔ خم دار پھل جیسے ککڑی وغیرہ۔ ہر درندے کا چھوٹا بچہ۔ اُھْدِیْ لَهٗ اَجْرٌ زُغْبٌ۔ آپ کو ککڑیاں تحفے میں دی گئیں جن پر نرم نرم روئیں تھے۔

جُرُوْرٌ: سرکش جانور۔ بے قابو گھوڑا۔ جمع جُرُوْرٌ۔

جُرُوْفٌ: بیلچہ۔ پھاوڑا۔ کدال۔

جُرُوْنٌ: عادت بنا لینا۔ کسی کام کا عادی ہونا۔

جُرُوْهَامٌ: شیر۔ بڑا اونٹ۔ بڑا پہاڑ۔

جُرُوْهَمٌ: یمن کا ایک قدیم قبیلہ۔ حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی تھی۔

جُرُوْیٌ: بہنا۔ گزرنا۔ واقع ہونا۔ جاری۔ رواں۔ موجودہ۔

جُرُوْیَةٌ: گلا۔ حلق۔

جُرُوْیُبٌ: کھیت۔ مٹی ملی ہوئی کنکریاں۔ زمین تاپنے کا ایک پیمانہ جس کی لمبائی ۵۷۶ ہاتھ کے برابر ہوتی ہے۔ جمع اَجْرِبَةٌ۔

جُرُوْیْتٌ: بام مچھلی جو سانپ کی شکل کی ہوتی ہے۔

جُرُوْیْحٌ: زخمی۔ زخم خوردہ۔

جُرُوْیْدَةٌ: ڈالی۔ شاخ۔ نَمْرٌ اَخَذَ جُرُوْیْدَةً۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری شاخ لی۔

جُرُوْیْرٌ: رسی۔ جانور کو کھینچنے کی رسی۔

جُرُوْیْرَةٌ: قصور۔

جُرُوْیْشٌ: دلیا۔ دلی ہوئی چیز۔ رَجُلٌ جُرُوْیْشٌ۔ پختہ کار آدمی۔

جُرُوْیْضٌ: اچھو۔ غصے سے موت کے قریب ہونے والا۔ شکستہ دل۔ بہت غم گین۔ جمع جُرُوْیْضٌ۔

حَالُ الْجُرُوْیْضِ دُوْنَ الْقَرِيْبِضِ۔ خوشی میں غم حائل ہو گیا۔ (ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے)۔

جُرَيْعَةٌ: چھوٹا گھونٹ (تفسیر)۔

جُرَيْعَمٌ: گناہ گار۔

جُرَيْعَمٌ: توڑی ہوئی کھجور۔

جُرْءٌ: پاشنا۔ قاعدت کرنا۔

جُرْءٌ: کھلا۔ حصہ۔ اکتفا کرنا۔ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ جُرْءًا (اپنی نماز میں) شیطان کا حصہ نہ لگا۔

جُرْءٌ: بدلہ دینا۔ کافی ہونا۔ فائدہ پہنچانا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا۔ الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا

أَجْزِي بِهِ۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

جُرْءٌ: فصل کی کٹائی اور ترائی کا وقت، اون کترنے کا وقت۔ پھل توڑنے کا وقت۔

جُرْءٌ: ہر چیز کا کٹنا ہوا یا کتر ہوا حصہ۔ کتری ہوئی اون کے کھلے۔

جُرْءٌ: اون کترنے والا۔ اون کاٹنے والا۔

جُرْءَةٌ: کترن۔ تراشہ۔ کھلا۔

جُرْءٌ: اندازہ کرنا۔ انکل سے کام کرنا۔ خرید و فروخت میں ناپ تول نہ کرنا۔ اِبْتَاعُوا الطَّعَامَ

جُرْءًا۔ اناج ناپے تولے بغیر خریدا۔ (یوں ہی ڈھیر لگا کر)۔

جُرْءٌ: صیاد۔ شکاری۔ چھیرا۔

جُرْءٌ: کھجور کی ترائی کا وقت۔

جُرْءٌ: فصاحت۔ سنجیدگی۔ متانت۔ پختہ رائے۔ بڑا ہونا۔ زیادہ ہونا۔

جُرْءٌ: کھجور توڑے کا وقت۔

جُرْءٌ: کاٹنا۔ طے کرنا۔ نکلنے کرنا۔

جُرْءٌ: بے صبری کرنا۔ رونا دھونا۔ ڈرنا۔ گھبرانا۔ مایوس ہونا۔ پریشان ہونا۔ ثُمَّ جُرْعَ

الصَّفِيْرَاءِ۔ پھر آپ نے وادی سفر کو طے کیا۔ (جنگ بدر میں)

جُرْعٌ: گھبراہٹ۔ بے چینی۔ پریشانی۔ بے صبری۔

جُرْعٌ: پریشان۔ گھبرایا ہوا۔

جُرْفٌ: ناپ تول کے بغیر بیچنا یا خریدنا۔ انداز سے خریدنا یا بیچنا۔ انکل سے کام کرنا۔ پیمانے سے

زیادہ دینا۔

جَزْفَةٌ: حصہ۔ ٹکڑا۔ چوپایوں کا گلہ۔

جَزْلٌ: کاٹنا۔ دو ٹکڑے کرنا۔ خشک اور بڑی لکڑیاں۔ لَمَّا اِنْتَهَى اِلَى الْعُزَى لَيَقْطَعَهَا فَجَزَلَ لَهَا بِاَنْتَيْنِ۔ جب وہ (خالد بن ولید) عزی کو کاٹنے لگے تو انھوں نے کاٹ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ اِجْمَعُوا لِي حَطْبًا جَزَلًا۔ میرے لئے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کرو۔

جَزْلَةٌ: ٹکڑا۔ اِنَّهُ يَضْرِبُ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزَلَتَيْنِ۔ دجال ایک شخص کو تلوار سے مار کر دو ٹکڑے کر دے گا۔

جَزْلَةٌ: ٹکڑا۔ سلاّس۔

جَزْمٌ: کاٹنا۔ قطعی فیصلہ کرنا۔ تہیہ کرنا۔ عزم کرنا۔ قسم پوری کرنا۔ پختہ کرنا۔ لازم کرنا۔

جَزْمَةٌ: ایک وقت کا کھانا۔ بوٹ۔ جوتا

جَزْمَةٌ: ٹکڑا۔ حصہ۔ دس یا اس سے کم چوپاؤں کا گلہ۔

جَزْوَةٌ: ٹکڑا۔ حصہ۔ اکتفا کرنا۔

جَزْوُزٌ: بکرے یا بکری کی کاٹی ہوئی اون۔

جَزْوِيَّةٌ: زمین کا خرارج۔ لگان۔ وہ ٹیکس جو اسلامی حکومت غیر مسلموں پر لگاتی ہے۔ حَتَّى يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دنیا منظور کر لیں۔

جَزِيْنٌ: کترا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

جَزِيْلٌ: بڑا۔ بہت۔ فصیح۔ عمدہ رائے والا۔ فیاض۔

جَسٌّ: چھوٹا۔ زمین کو روندنا۔ تحقیق کرنا۔ سراغ لگانا۔ ٹٹول کر دیکھنا۔ گھور کر دیکھنا۔ فَجَسَّهَا رَجُلٌ بَيْدَهُ۔ ایک شخص نے اس کو ہاتھ سے ٹٹولا۔

جِسَادٌ: زعفران۔ خشک خون۔ ہر وہ رنگ جو زرد یا انتہائی سرخ ہو۔ اِنَّ امْرَأَةً لَيْسَ عَلَيْهَا اَثَرٌ وَّالْمَجَاسِدُ۔ اس کی عورت پر رنگین کپڑوں کا نشان نہیں ہے۔

جِسَارٌ: لہذاڑنگا آدمی۔ دلیر۔ تیز۔ من چلا۔ بہت شوخ۔ بے ادب۔



جَسَارَةٌ: شوخی۔ بے ادبی۔ دلیری۔ بہادری۔ بے باکی۔  
 جَسَارَةٌ: پل۔ پل بنانا۔ ہمت کرنا۔ کرگزرنا۔ دراز قامت۔  
 جَسَاسٌ: بہت سراغ لگانے والا۔ زبردست جاسوس۔  
 جَسَامٌ: جسامت والا۔ ڈیل ڈول والا۔  
 جَسَامَةٌ: ضخامت۔ تناوری۔ بھاری پن۔

جَسَدٌ: جسم۔ بدن۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ پھر اس نے ان کے لئے ایک  
 کچھڑا نکالا جو ایک دھڑ تھا، جس میں سے ایک آواز نکلتی تھی۔  
 جَسْرٌ: پل۔ پل بنانا۔ ہمت کرنا۔ کرگزرنا۔ دراز قامت۔ عَلَيْهِ جَسْرٌ (اس دوزخ) پر ایک  
 پل ہوگا۔

جَسْرٌ: پل۔ نہر کا کنارہ۔ دوزیمینوں کے درمیان حد فاصل۔  
 جَسْرُ الْبِنَاءِ: چنان جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جاتی ہے۔  
 جَسْرُ الْعَالَمِ: کشتیوں سے بنا ہوا پل۔  
 جَسْرُ الْمُعَلَّقِ: معلق پل۔ جمولا پل۔ بغیر ستون کا لٹکا ہوا پل۔  
 جَسْمٌ: بدن۔ ڈھانچہ۔  
 جَسْمَانٌ: جسم۔ بدن۔

جَسْمَانِيٌّ: جسائی۔ بدنی۔ بھاری بھر کم۔

جَسْمِيٌّ: جسائی۔ بدنی۔

جَسُورٌ: بہادر۔ دلیر۔ نڈر۔ باہمت۔ بے باک۔

جَسُورًا: پل۔ پل بنانا۔ ہمت کرنا۔ کرگزرنا۔ دراز قامت۔  
 جَسِيْسٌ: جاسوس۔

جَسِيْمٌ: تناور۔ طاقت ور۔ زبردست۔ بھاری بھر کم۔

جَشٌّ: لوگوں کا اجتماعی طور پر کوچ کرنا۔ غلہ دلنا۔ کوٹنا۔ آواز بیٹھ جانا۔ جھاڑنا۔ صاف کرنا۔

فَعَمَدَتْ اِلَى شَعْبِيْرٍ فَبَجَسْتُهُ وَهِيَ جَوْكِي طَرَفِ اَنْحَى اُوْرَاسِ كُوَيْسِ اُوْاَلَا۔

جُشٌّ: رات کا حصہ۔

جُشَاءٌ: ڈکار۔

جُشَاءٌ: جی متلانا۔ دل گھبرانا۔ قے آنے کو ہونا۔ سانس پھولنا۔ جھگی کرنا۔ فَجَشَأَ عَلٰی نَفْسِهِ۔ اس نے اپنے اوپر جھگی کی۔

جُشَاءٌ: جی متلانا۔ دل گھبرانا۔ قے آنے کو ہونا۔ سانس پھولنا۔ جھگی کرنا۔ جُشَاءٌ: کنکریلی زمین جو کھجور بونے کے لائق ہو۔

جُشَارٌ: کھانسی۔ بیٹھی ہوئی آواز۔ گھر دری آواز۔

جُشَارٌ: اس چراگاہ کا مالک جس میں مویشی ٹھہرے ہوئے ہوں۔

جُشَبٌ: بد مزہ ہونا۔ روکھا ہونا۔ کھر درا ہونا۔ معمولی غذا۔ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَأْكُلُ الْجُشَبَ مِنَ الطَّعَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی کھانا کھاتے تھے۔ جُشَةٌ: سختی۔ آواز کی کرختگی۔ بھداپن۔

جُشْرًا: میلا ہونا۔

جُشِيرٌ: خشک کھانسی ہونا۔

جُشْرٌ: چھوڑ دینا۔ برتن کو خالی کرنا۔ جانوروں کو چراگاہ لے جانا۔

جُشْرَةٌ: زکام۔

جُشْشٌ: موٹی اور بیٹھی ہوئی آواز۔ بھاری آواز۔

جَشَعٌ: حرص کرنا۔ طح کرنا۔ کسی کی جدائی پر رونا۔ رنج کرنا۔ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللّٰهُ

عَنْهُ فَجَشَعْنَا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی

طرف سے منہ پھیر لے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم رونے لگے۔ فَبُكِيَ مُعَاذٌ جَشَعًا

لِغِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ حضرت معاذ آپ کی جدائی کے غم سے

رونے لگے۔ (جب آپ نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا)۔

جَشِعٌ: لالچی۔ حریص۔

جَشَمٌ: موٹا ہونا۔ بھاری ہونا۔ کام کو مشقت کے ساتھ کرنا۔

جَشَمٌ: انصار کا ایک قبیلہ۔

جُشُوَةٌ: جی متلانا۔ دل گھبرانا۔ قے آنے کو ہونا۔ سانس پھولنا۔ جھگی کرنا۔

جَشُوبُ: اکڑ اور سخت مزاج عورت۔

جَشُورًا: پوہ پھٹنا۔ صبح ہونا۔ چوپاؤں کا چراگاہ میں ٹھہرنا۔

جَشِيرٌ: بڑا پیالہ۔ بڑا بورا۔ گٹھا۔ جمع أَجْشِرَةٌ۔

جَشِيثٌ: دلیا۔

جَشِيثَةٌ: دلیا۔

جِصٌّ: سرخی وغیرہ ملا ہوا چونا۔ عمارتی مسالا۔

جِصًا جِصٌّ: سفید ہم وار جگہ۔

جِصَّصٌ: چونا بنانے والا۔ چونا فروخت کرنے والا۔

جِصَّصَةٌ: چونے کی بھٹی۔

جِصِيصَةٌ: قریب قریب رہنے والے لوگ۔

جِصٌّ: اکڑ کر چلنا۔ اتر کر چلنا۔ حملہ کرنا۔

جِصْدٌ: کوڑے مارنا۔

جِصْمٌ: جس کی پسلیاں اور کمر موٹی ہو۔

جِطٌّ: مغرور۔ گھمنڈ والا۔ دوڑنا۔ موٹا ہونا۔ پچھاڑ دینا۔ أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جِطٍّ مُسْتَكْبِرٍ۔ ہر

مغرور و تکبر دوزخ میں جائے گا۔

جِعَابٌ: ترکش بنانے والا۔ ترکش فروخت کرنے والا۔ فَانْتَرَعَ طَلْقًا مِنْ جِعَابِهِ۔ اس نے

اپنے تیردان سے ایک تسمہ نکالا۔

جِعَارٌ: وہ رسی جس کا ایک سرا کنویں میں اترنے والا اپنی کمر میں باندھ لیتا ہے اور دوسرا سرا کنویں

سے باہر کی چیز سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔

جِعَالٌ: کام کی اجرت۔ رشوت۔

جِعَالَةٌ: کام کی اجرت۔ رشوت۔

جِعْبٌ: تیردان بنانا۔ پچھاڑنا۔ جمع کرنا۔ پلٹ دینا۔ پھڑنا۔

جِعْبَةٌ: تیروں کا تھیلا۔ ترکش۔ جمع جِعَابٌ۔

جِعْبَرٌ: پست قد۔ غلیظ۔ موٹا اور چھوٹا پیالہ۔ جس کی تراش نامکمل ہو۔ جمع جِعَابِرٌ۔

جَعْبَرَةٌ: بچھاڑنا۔

جَعْبَرِيٌّ: پستہ قامت اور گٹھا ہوا۔ بھدا آدمی۔

جَعْبُوْبٌ: پست اور بھدا۔ ایسا کمزور جو کسی مصرف کا نہ ہو۔ جمع جَعَابِيْبٌ۔

جَعْفِيٌّ: سرخ چپوٹی۔

جَعَّةٌ: جو کی شراب۔ نَهَى عَنِ الْجَعَّةِ۔ آپ نے جو کی شراب سے منع فرمایا۔

جَعْفَلٌ: سخت مزاج۔ تند خو۔ بڑے پیٹ والا۔

جَعْفَمٌ: بڑھکتا۔ سکرنا۔

جَعْفَمٌ: ایک سبزی کی جڑیں۔

جَعْفِيْنٌ: ایک سبزی کا نام۔

جَعْبَجَاعٌ: تنگ اور سخت جگہ۔ شور وغل کرنے والا۔ قید خانہ۔

جَعْبَجَعٌ: تنگ اور کھردری جگہ۔ سخت جگہ۔ نشیبی جگہ۔

جَعْبَجَعَةٌ: ہلانا۔ بٹھانا۔ بیٹھنا۔ تنگ کرنا۔ روکنا۔ قید کرنا۔ شور۔ چلنے کی گڑگڑاہٹ۔

جَعْدٌ: گھنگریا لے بال۔ مڑنا۔ سکرنا۔ حقیر۔ بخیل۔ مضبوط بدن کا پست قد۔ اِنْ جَاءَتْ بِه

جَعْدًا۔ اگر اس کے گھنگریا لے بال والا بچہ پیدا ہو۔

جَعْدَبَةٌ: حباب۔ بلبہ۔ کڑی کا گھر۔

جَعْدَةٌ: گھنگریا لے بالوں کی لٹ۔ کاغذ یا کپڑے کی سلوٹ۔ جلد کی جھری۔

جَعْفٌ: مزاج کا خشک ہونا۔ آواز کرنا۔ پیچانہ کرنا۔

جَعْفَةٌ: کمر میں رسی باندھنے کا نشان۔

جَعْفَسٌ: ہوا خارج کرنا۔ پیچانہ کرنا۔ گوبر۔ لید۔

جَعْفَسُوْسٌ: پست قد اور بھدا۔ گھٹیا اخلاق والا۔ گھٹیا نسب والا۔

جَعْفَسَمٌ: وسط۔ درمیان۔ بیچ۔ جمع جَعَاشِمٌ۔

جَعْفَسَمٌ: پست قد اور موٹا۔ جمع جَعَاشِيْمٌ۔

جَعْفَطٌ: بغاوت کرنا۔ معاملہ خراب کرنا۔ دفع کرنا۔ پٹانا۔ بد اخلاق اور تند مزاج ہونا۔ خود پسند۔

اَلَا اَخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلِّ جَعْفَطٍ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ہر مغرور، خود پسند

یابد اخلاق اہل دوزخ میں سے ہے۔

جَعْفَانٌ: بونا۔ پست قد۔

جَعْفَرَةٌ: پیٹھ موڑ کر بھاگنا۔ آہستہ دوڑنا۔

جَعْفٌ: گرانا۔ کاٹنا۔ اکھاڑنا۔ پچھاڑنا۔ تھوڑا۔ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا جَعْفٌ۔ اس کے پاس تھوڑا سا مان و متاع ہے۔

جَعْفَرٌ: چھوٹی نہر۔ ندی۔ نالا۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

جَعْفَلَةٌ: کسی کو یہ کہنا کہ میں تجھ پر صدقے۔

جُعْفِيُّ: ایک قبیلے کا نام۔

جُعْلٌ: مزدوری۔ اجرت۔ انعام۔ حق محنت۔

جَعْلٌ: بنانا۔ گمان کرنا۔ دینا۔ پیدا کرنا۔ وجود میں لانا۔ وَجَعَلَ الظُّلْمَتِ والنُّورَ۔ اور

تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ لَمْ أَجْعَلْهَا بِظَهْرٍ۔ میں نے تیری ضرورت کو پس پشت نہیں ڈالا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔

جَعَلًا: پانی میں کیڑوں کا پیدا ہونا۔ اجرت۔ مزدوری۔ موٹا۔ پست قد۔ جھگڑا۔

جَعِيسٌ: گاڑھا اور موٹا۔

جَعِيلَةٌ: اجرت۔ مزدوری۔ رشوت۔ بھیڑ بکریوں کا گلہ۔ جمع جَعَائِلٌ۔

جَفٌّ: جمع کرنا۔ خشک ہونا۔ جماعت۔ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ۔ (قیامت تک) جو کچھ

ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔

جُفٌّ: ہر کھوکھلی چیز۔ کھجور کے خوشوں کی تھیلی۔ جماعت۔ گروہ۔ جمع جُفُوفٌ۔

جَفًّا: گرا دینا۔ پھینک دینا۔ اوندھا کر دینا۔ جھاگ اٹھنا۔ پچھاڑ دینا۔ جَفَّا البَقْلَ وَالشَّجَرَ

جَفًّا۔ سبزی یا درخت کو کاٹ دینا۔

جَفًّا: بیٹ کرنا۔

جُفَاءً: جھاگ۔ ہنڈیا کا ابال۔ خس و خاشاک۔ وادی کا کوڑا کرکٹ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

جُفَاءً۔ سو وہ جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے۔

جَفَافٌ: لباس۔ شکل و صورت۔

جَفَّاحٌ: غرور کرنے والا۔ فخر کرنے والا۔

جُفَافٌ: خشک کی ہوئی چیز۔

جَفَافٌ: خشکی۔ روکھاپن۔ خشک مزاجی۔

جُفَافَةٌ: بکھری ہوئی گھاس۔

جُفَالٌ: جھاگ۔ خس و خاشاک۔

جُفَايَةٌ: خالی کشتی۔

جُفَّةٌ: گروہ۔ چھوٹا ڈول۔

جَفَجَفٌ: گڑھا۔ کھائی۔ کشادہ ہم وار میدان۔ بہت بولنے والا۔

جَفَّحًا: فخر کرنا۔ غرور کرنا۔

جَفْرٌ: بڑا ہونا۔ کھانے کے لائق ہو جانا۔ بکری کے بچے کا بڑا ہونا۔ فَخْرَجَ إِلَىٰ إِبْنِ لَهْ جَفْرًا۔

ایک لڑکا میری طرف نکلا جس کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔

جُفْرَةٌ: ہر شے کا درمیان اور بڑا حصہ۔ گول بڑا گڑھا۔ جَمْعُ جَفَارٍ وَ جُفْرًا۔ فَوَجَدْنَاهُ فِي بَعْضِ

تِلْكَ الْجَفَارِ۔ ہم نے اس کو ایک گڑھے میں پایا۔

جَفَلٌ: چھیلنا۔ الگ کرنا۔ ڈالنا۔ ہلانا۔ بانگنا۔ دفع کرنا۔ بھاگنا۔ پریشان ہونا۔ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَنْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ۔ جب آپ مدینے تشریف

لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف بھاگے۔

جَفَلٌ: بھگانا۔ بدکانا۔

جِفْلٌ: ہاتھی کی لید۔ جَمْعُ أَجْفَالٍ۔

جُفْلَةٌ: اون کا کچھا۔ جَمْعُ جُفْلٍ۔

جُفْلَةٌ: بہت تپوں والا درخت۔

جِفْنٌ: تلووار وغیرہ کی میان۔ جَمْعُ أَجْفَانٍ وَأُجْفُنٍ۔

جِفْنٌ: باز رکھنا۔ روکنا۔ فخر کرنا۔ بڑے پیالے میں کھانا نکالنا۔ تلووار کی میان۔ انگور کی تیل۔

جِفْنَةٌ: پیالہ۔ چھوٹا کنواں۔ سخی آدمی۔ انگور۔ اِغْتَسَلَ فِي جِفْنَةٍ۔ ایک بڑے پیالے میں غسل

کیا۔ وَهُوَ مِثْلُ شَيْءٍ جَفْنَةٍ۔ اس وقت چاند آدھے پیلے کی مانند تھا۔

جَفْوَةٌ ۱: گرا دینا۔ پھینک دینا۔ جھاگ اٹھنا۔ پچھاڑ دینا۔

جَفْوَةٌ: سخت ہونا۔ بے مروت ہونا۔ بھاری ہونا۔ دور ہونا۔ إِذَا سَجَدْتَ فَتَجَافَأْ۔ جب تو سجدہ

کرے تو بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھ۔ اِقْرَأْ وَالْقُرْآنَ وَلَا تَجْفُوا۔ قرآن پڑھتے

رہو اس سے دور مت ہو۔

جَفْوَةٌ: سخت ہونا۔ بے مروت ہونا۔ بھاری ہونا۔ دور ہونا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید

سے پکارتے ہیں۔

جَفْوَفًا: خشک ہونا۔ سوکھنا۔ خاموش ہونا۔

جَفِيٌّ: گرا نا۔ لَسْتُ بِالْجَافِيِّ وَلَا الْمَجْفِيِّ۔ نہ میں ظالم ہوں نہ مظلوم۔

جَفِيرٌ: ترکش۔ بڑا ترکش۔

جَفِيرَةٌ: چمڑے کا تھیلا۔

جَفِيفٌ: سوکھی کھاس۔

جَفَقَةٌ: بوڑھی اونٹنی۔

جَكْرٌ: الحاح کرنا۔ غصہ کرنا۔ آہ و زاری کرنا۔

جُكَيْرَةٌ: حاجت۔ ضرورت۔ غرض۔

جَلَاءٌ: سرمہ۔ بلند مرتبہ سردار۔

جَلَاءٌ: پچھاڑ دینا۔ پھینک دینا۔ وضاحت کرنا۔ انکشاف کرنا۔ سفیدی۔ سرمہ۔

جَلَاءٌ: پچھاڑ دینا۔ پھینک دینا۔ وضاحت کرنا۔ انکشاف کرنا۔ سفیدی۔ سرمہ۔

جَلَاءٌ: سرمہ۔ لقب۔ کنیت برائے تعظیم۔

جَلَاءَةٌ: پچھاڑ دینا۔ پھینک دینا۔ وضاحت کرنا۔ انکشاف کرنا۔ سفیدی۔ سرمہ۔

جَلَا جَلًّا: صاف اور تیز آواز والا۔ پھرتیلا۔ کام میں چست۔

جَلَاخٌ: زبردست سیلاب۔ تباہ کن سیلاب۔

جَلَاخٌ: تباہ کن سیلاب۔ گہری وادی۔

جِلَادًا: تلوار سے مقابلہ کرنا۔ لَوْلَا جِلَادِي غَيْرَ يَلَا دِي۔ اگر میں اپنے مال کا دفاع نہ کرتا تو میرا مال لوٹ لیا جاتا۔

جِلَادٌ: کوڑے لگانے والا۔ جِلَادٌ: پھانسی دینے والا۔

جِلَادِي: نہایت بدخلق۔ پتھر۔ راہب۔ جمع جِلَادِيٌّ۔

جِلَاذٌ: قسمہ جو کوڑے یا کمان پر باندھا جائے۔

جِلَافٌ: ترمٹی۔ گارا۔

جِلَاقَةٌ: گوشت کا ٹکڑا۔ مَا عَلَيْهِ جِلَاقَةٌ لِحَمِيرٍ۔ وہ دبلا پتلا ہے۔

جِلَالٌ: بڑائی۔ بزرگی۔ پاکیزگی۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ بڑے مرتبے اور بزرگی والا۔

جِلَالٌ: وجہ۔ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ جِلَالِكَ۔ میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔

جِلَالٌ: ہر شے کا اکثر حصہ۔

جِلَالَةٌ: بڑائی۔ بزرگی۔ پاکیزگی۔ عظمت۔ بلندی۔ مرتبہ۔

جِلَامَةٌ: کترے ہوئے بال۔ کتری ہوئی اون۔ کترن۔

جِلَاهِقٌ: غلیل۔

جَلَبٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ شور مچانا۔ ڈرانا۔ ڈانٹنا۔ جھڑکنا۔ جمع کرنا۔ زخم کا اچھا ہو جانا۔ اکٹھا ہونا۔

جَلَبٌ: سامان تجارت۔ لائی ہوئی چیز۔ سامان تجارت لانے والا قافلہ۔ زخم کا اچھا ہو جانا۔ جمع

أَجْلَابٌ۔ لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ آگے جا کر تجارتی قافلے سے نہ ملو۔ رَبُّ أُمْنِيَّةٍ جَلَبَتْ

مَنْيَّةً۔ بہت سی آرزوئیں موت تک پہنچا دیتی ہیں۔

جَلَبٌ: ہر چیز کا ڈھکن۔ رات کی تاریکی۔

جِلْبَابٌ: کرتہ۔ پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس۔ اوڑھنی۔ بڑی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ

لے۔ جمع جِلَابِيْبٌ۔ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلَابِيْبِهِنَّ۔ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا

کریں۔

جِلْبَانٌ: چمڑے کا تھیلا جس میں میاں سمیت تلوار رکھی جائے۔

جِلْبِيَّةٌ: کرتا پہنانا۔



محمد سعید شیخ

شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ شالیمار کالج، باغبان پورہ، لاہور

## اشاریہ تحقیقات حدیث

شمارہ ۵۳۱

ضلع بہاول پور کی اہم ترین تحصیل خیر پور ٹا میوالی مذہبی تشخص، مدارس و مساجد اور علما و حفاظ کی کثرت کی وجہ سے ملک بھر میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اس کے اکثر و بیشتر اہالیان مذہبی سے لگاؤ فریفتگی کی حد تک رکھتے ہیں۔ اس مذہب پسندی کی سب سے بڑی وجہ ”جامعہ خیر العلوم“ ہے، جو نہ صرف ایک دینی ادارہ بل کہ ایک تحریک ہے، جس نے اہل علاقہ کی شرح خواندگی کے اضافے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ ادارہ یوم تاسیس سے اب تک فروغ علم و آگہی میں کوشاں ہے۔ خیر پور ٹا میوالی کا شاید ہی کوئی گھر نہ ایسا ہو جس کے افراد کے کو اس عظیم دینی درس گاہ سے شرف تلمذ حاصل نہ رہا ہو۔ وہاں ”جامعہ خیر العلوم“ کی حیثیت ایک علمی ریاست کی سی ہے جو اپنی روحانی رعایا کی علمی و فکری ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف عمل ہے، اس سے وابستگان اپنی اس نسبت پر بجا طور پر فخر کرتے ہیں۔ اس علمی ریاست کے پہلے فرماں رواں مولانا مفتی غلام قادر علیہ الرحمہ تھے، جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، علم و عمل، تقویٰ و ورع، اور سادگی و تواضع آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ تلامذہ سے خیر خواہی آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ وہ بلا مبالغہ ایسی شخصیت تھے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے۔

جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے، وہ لوگ

آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں

آپ کے تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، راقم سطور سمیت تحقیقات حدیث کے ادارت سے وابستہ ہر فرد کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے اور یہ نسبت باعث افتخار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرقد مبارک پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین

حضرت مفتی صاحبؒ ہی کی یاد میں ”تحقیقات حدیث“ کا اجرا عمل میں لایا گیا، گزشتہ پانچ شماروں میں حدیث و علوم حدیث سے متعلق اچھا سا چھوٹے بڑے تحقیقی مقالات نذر قارئین ہو چکے ہیں، جن کا اشاریہ پیش خدمت ہے

## اشاریہ بہ لحاظِ عناوین مقالہ

### الف ﴿

- ۱۔ احادیث طاعون۔ ایک مطالعہ، مولانا مفتی محمد زاہد، ترجمہ: سید متین احمد شاہ، شوال المکرمہ ۱۴۳۲ھ / ستمبر ۲۰۱۱ء، ش ۳، ص ۱۲۷-۱۹۱
- ۲۔ احادیث میں تمثیلات، مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری، محرم الحرام ۱۴۳۱ھ / جنوری ۲۰۱۰ء، ش ۲، ص ۵۵-۶۳
- ۳۔ اُردو رسائل کے حدیث نمبر۔ ایک تعارفی جائزہ، پروفیسر محمد اقبال جاوید، رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ / ستمبر ۲۰۰۸ء، ش ۱، ص ۲۵۵-۲۸۶
- ۴۔ اُردو شاعری میں احادیث کی تلمیحات، ڈاکٹر حافظ منیر احمد خاں، شعبان ۱۴۳۳ھ / جولائی ۲۰۱۲ء، ش ۵، ص ۷۳-۱۳۴
- ۵۔ اُردو میں اربعینات، محمد عالم بخاری، صفر ۱۴۳۳ھ / جنوری ۲۰۱۲ء، ش ۴، ص ۱۱۹-۱۷۰
- ۶۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث۔ ایک تعارف، ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ / ستمبر ۲۰۰۸ء، ش ۱، ص ۲۰۱-۲۱۸
- ۷۔ امام اعظم اور علم الحدیث، کنور سلطان احمد، رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ / ستمبر ۲۰۰۸ء، ش ۱، ص ۱۵۵-۱۸۲
- ۸۔ امثال بخاری اور اخلاقیات، محمد کریم خان، صفر ۱۴۳۳ھ / جنوری ۲۰۱۲ء، ش ۴، ص ۵۳-۷۰